

7895- کیا سجدہ سو کے بعد تشدید ہے؟

سوال

کیا میرے لیے سجدہ سو کے بعد دوبارہ تشدید پڑھنی ضروری ہے؟

پسندیدہ جواب

سجدہ سو کے بعد تشدید نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔

مزید تفصیل کے آپ سوال نمبر (211) کا جواب دیکھیں۔

اگر بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو صحابہ کرام اسے بیان اور نقل ضرور کرتے۔

اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوتے دیکھا ہے"

شیخ موفق ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

... اور ابن سیرین اور ابن منذر (سجدہ سو کے متعلق) کہتے ہیں : ان دونوں سجدوں میں بغیر تشدید کے سلام ہے۔

ابن منذر کہتے ہیں : ان دونوں سجدوں میں سلام کرنی وجہ سے ثابت ہے، اور تشدید کے ثبوت میں نظر ہے۔

دیکھیں المفہ (431-432/2).

ذوالیدین رضنی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے فوائد کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

فوائد میں سجدہ سو کا اثبات بھی ہے۔

یہ کہ سجدہ سو دو سجدے ہے یہیں، اور ہر سجدہ کے لیے تجھر کہی جائیگی، اور یہ دونوں سجدے نماز کے سجدے والی کیفیت اور بہیت کے ہی میں، کیونکہ حدیث میں سجدہ کا لفظ مطلق بیان ہوا ہے، اگر عادتاً سجدے سے مخالف ہوتا تو اس کا بیان کر دیتے۔

اور یہ کہ سجدہ سو سے سلام پھیری جائیگی، اور اس کی تشدید نہیں ہے، اور یہ کہ زیادہ ہونے کی صورت میں سجدہ سو سلام کے بعد ہونگے۔

دیکھیں : شرح مسلم للنووی (5/71).

واللہ اعلم۔